



سوال

(99) یہ پروگرام دیکھنا حرام ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

موسیقی گانے سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز ایسے پروگرام دیکھنے کا کیا حکم ہے جن میں خواتین میک اپ کر کے شرکت کرتی ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ان پروگراموں کو دیکھنا اور سننا حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے، دلوں کو بیمار کرنے اور حرام امور کے ارتکاب کا سبب بنتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَشْهَادٍ هُزُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ ۝ ۱ وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَآلِي مُسْتَكْبِرِينَ كَانُوا فِي أَذْنَبِهِمْ وَقُرْ آيَاتُنَا بِعَذَابٍ آتِيهِمْ ۝ ۲ ... سورة لقمان

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بے ہودہ حکایتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹائیں اور اس سے استہزاء کریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکر کر اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے ان کو یہ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں ثقل ہے تو آپ اسے در دھینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔“

یہ دو آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہیں کہ گانا، بجانا سننا خود گمراہ ہونے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے اسباب میں سے بھی ہے اور آیات الہی کو سننے کے بجائے ان کے ساتھ مذاق اور ان سے اعراض بھی ہے۔

ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والے اور در دھینے والے عذاب کا وعدہ کیا ہے، آیت میں مذکور ”لہو الحدیث“ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد گانا، بجانا، آلات موسیقی اور ہر وہ آواز ہے جو اللہ کی راہ سے روکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) (صحیح البخاری)

”میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال قرار دیں گے۔“



”حر“ کا لفظ حا اور را کے ساتھ ہے، اس کے معنی حرام شرم گاہ یعنی زنا ہے، ریشم ایک معروف مشہور چیز ہے جس کا استعمال مردوں کے لئے حرام ہے، شراب بھی معروف مشہور چیز ہے اور اس سے مراد ہر نشہ آور چیز ہے جو سب کے لئے حرام ہے، معازن سے مراد آلات موسیقی مثلاً بانسری، طبلہ اور طنپور وغیرہ ہیں جیسا کہ ”نہایہ“ اور ”قاموس“ وغیرہ میں ہے ”عزف“ کے معنی آلات موسیقی کے ساتھ کھیلنا اور ”عازف“ کے معنی مغنی اور آلات موسیقی کے استعمال کرنے والے کے ہیں۔

ہر مسلمانوں مرد و عورت کے لئے یہ واجب ہے کہ وہ ان منکرات سے اجتناب کرے اور ان پروگراموں کو دیکھنے سے بھی اجتناب کرے جن میں خواتین میک اپ کر کے شرکت کرتی ہیں اور اظہار حسن و جمال کرتی ہیں، کیونکہ ایسے پروگرام دیکھنا حرام ہے، نیز ایسے پروگرام دیکھ کر دل بیمار ہو جاتے ہیں اور غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور ایسے پروگرام دیکھنے والے کے حرام میں مبتلا ہو جانے کا بھی شدید خطرہ ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے اور ناراضی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 84

محدث فتویٰ